



4713CH02

اعتبار

ماں کو اپنے بیٹے اور زمیندار کو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی۔ یہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا۔ اس کے مقابلے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ تھا۔ بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر بلاتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھیرا کرتے، اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ سلطان سے جدائی کا خیال بھی اُن کے لیے ناقابلِ برداشت تھا۔ ان کو وہم ہو گیا تھا کہ ”میں اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا“۔ وہ اس کی چال پر فریفتہ تھے۔ کہتے: ”اس طرح چلتا ہے جیسے طاؤس اودی اودی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو“۔ گاؤں کے لوگ اس محبت پر حیران تھے۔ بعض وقت کنکھیوں سے اشارے بھی کرتے تھے، مگر بابا بھارتی کو اس کی پروا نہ تھی۔ جب تک شام کو وہ سلطان پر سوار ہو کر آٹھ دس میل کا چکر نہ لگاتے انھیں چین نہ آتا۔

کلہن اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا۔ لوگ اس کا نام سُن کر تھراتے تھے۔ ہوتے ہوتے سلطان کی شہرت اُس



کے بھی کانوں تک پہنچی۔ شوق نے دل میں چٹکی لی۔ ایک دن دو پہر کے وقت بابا بھارتی کے پاس پہنچا اور نمسکار کر کے کھڑا ہو گیا۔

بابا بھارتی نے پوچھا: ”کلہن! کیا حال ہے؟“

کلہن نے سر جھکا کر جواب دیا: ”آپ کی مہربانی ہے۔“

”کہو، ادھر کیسے آ گئے؟“

”سلطان کی شہرت کھینچ لائی ہے۔“

”عجیب جانور ہے، خوش ہو جاؤ گے۔“

”میں نے بڑی تعریف سنی ہے۔“

”اس کی چال تمہارا دل موہ لے گی۔“

”کہتے ہیں شکل بھی بڑی خوبصورت ہے۔“

”کیا کہنے! جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے، اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے۔“

”مدّت سے ترس رہا تھا، آج حاضر ہوا ہوں۔“

بابا اور کلہن دونوں اصطلبل میں پہنچے۔ بابا نے بڑے غرور سے گھوڑا دکھایا۔ کلہن نے حیرت سے گھوڑے کو دیکھا۔ اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے، لیکن ایسا بانکا گھوڑا اس کی نگاہ سے آج تک نہ گزرا تھا۔ سوچنے لگا قسمت کی بات ہے۔ ایسا گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس فقیر کو ایسی چیزوں سے کیا نسبت۔ اس کی چال دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ وہ ڈا کو تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی۔

اس نے کہا: ”بابا صاحب! اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔“ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔

بابا خوف زدہ ہو گئے۔ اب انہیں رات کو نیند نہ آتی تھی۔ ساری ساری رات اصطلبل کی خبر گیری میں کٹنے لگی۔ ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا، مگر کئی مہینے گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک

بے پروا ہو گئے۔

شام کا وقت تھا۔ بابا بھارتی سلطان کی پیٹھ پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے۔ یکا یک ایک طرف سے آواز آئی:
 ”او بابا! ذرا اک محتاج کی بات سنتے جاؤ۔“
 آواز میں رقت تھی۔ بابا نے گھوڑا روک لیا۔ دیکھا تو ایک اپانچ درخت کے سائے تلے پڑا کراہ رہا تھا۔ بابا بھارتی
 کا دل پیسج گیا، بولے: ”کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟“
 اپانچ نے ہاتھ باندھ کر کہا: ”بابا! میں دکھی ہوں، مجھ پر مہربانی کرو۔ راما والا یہاں سے تین میل کے فاصلے پر
 ہے۔ مجھے وہاں جانا ہے۔ گھوڑے پر چڑھا لو۔ پر ماتما تمہارا بھلا کرے گا۔“
 ”وہاں تمہارا کون ہے؟“ بابا نے پوچھا۔
 ”درگادت حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔“



بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپنا بیج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا محسوس ہوا اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپنا بیج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹھا اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ اپنا بیج کلہن ڈاکو تھا۔

بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا: ”ذرا ٹھہرو!“
کلہن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا: ”بابا صاحب! یہ گھوڑا اب نہ دوں گا۔“

بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا ”یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو۔ میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رڈ نہ کرنا ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔“
”بابا، حکم دیجیے! میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔“
”اب گھوڑے کا نام نہ لو۔ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے۔“

کلہن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے خیال تھا کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولس میں دے کر مجھے گرفتار کرادیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑیں اور پوچھا: ”بابا صاحب! اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟“

بابا بھارتی نے جواب دیا: ”لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہ کریں گے۔“
اور یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔
بابا بھارتی تو چلے گئے مگر ان کا فقرہ کلہن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا۔ سوچتا تھا بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے۔ اگرچہ بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا، مگر آج ان کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ انہیں صرف یہ

خیال ستارہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں۔ انھوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ ایسا آدمی آدمی نہیں فرشتہ ہے۔

رات کی تاریکی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ اصطلبل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کبھی وہاں بابا بھارتی لائٹھی لے کر پہرہ دیتے تھے۔ کلہن نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ پر باندھ دیا اور باہر نکل کر دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔

صبح ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر سرد پانی سے غسل کیا۔ اس کے بعد ان کے پاؤں اصطلبل کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو مگر دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے۔ انھیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب گھوڑا وہاں کہاں تھا۔

گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو پہچان لیا اور زور سے ہنہنایا۔ بابا بھارتی دوڑتے ہوئے اصطلبل کے اندر چلے گئے اور اپنے گھوڑے کے گلے سے لپٹ کر اس طرح رونے لگے جیسے نچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے تھے: ”اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔“

سدرشن

معنی یاد کیجیے

گھوڑے کے جسم کی صفائی کے لیے ایک طرح کا برش	:	کھیرا
عاشق	:	فریفتہ
مور	:	طاؤس

نظریں بچا کر دیکھنا	:	کنکھیوں سے دیکھنا
دل لبھانا	:	دل موہ لینا (محاورہ)
صورت کا دل میں بیٹھ جانا	:	صورت نقش ہو جانا
گھوڑے باندھنے کی جگہ	:	اصطبل
البیلا، بیچلا	:	بانکا
تعلق	:	نسبت
گہرے بینگنی رنگ کی	:	اودی
حسد کرنا، کسی کی بڑائی برداشت نہ کرنا	:	سینے پر سانپ لوٹنا (محاورہ)
خبر رکھنا، دیکھ بھال	:	خبر گیری
ضرورت مند، حاجت مند	:	محتاج
دل نرم ہونا، ترس کھانا	:	دل پسینا (محاورہ)
جسمانی طور پر معذور	:	اپانچ
حیران رہ جانا، تعجب میں پڑنا	:	منہ کھلا رہ جانا (محاورہ)
غائب	:	روپوش
افسوس، رنج	:	ملال
قدموں کی آہٹ	:	چاپ
رونے کی سی آواز، روہانسی آواز، درد بھری آواز	:	آواز میں رقت

سوچے اور بتائیے۔

1. بابا بھارتی اپنا گھوڑا دیکھ کر کیوں خوش ہوتے تھے؟
2. بابا بھارتی کے گھوڑے کی چال کیسی تھی؟

3. کلہن کون تھا اور بابا اس سے خوف زدہ کیوں رہتے تھے؟
4. بابا بھارتی کا گھوڑا دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ کیوں لوٹ گیا؟
5. اپانج بن کر بابا بھارتی سے کس نے مدد مانگی؟
6. بابا بھارتی نے کلہن سے کیا درخواست کی؟
7. بابا بھارتی نے کلہن سے کیوں کہا کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا؟
8. کلہن نے بابا بھارتی کے بارے میں کیا سوچ کر گھوڑا ان کے اصطبل میں باندھ دیا؟
9. اپنے گھوڑے کو واپس پا کر بابا بھارتی نے کیا کہا؟

صحیح جملوں پر صحیح (✓) اور غلط پر غلط (x) کا نشان لگائیے۔

1. کلہن اپنے علاقے کا ایک شریف انسان تھا۔ ()
2. جو بھی بابا کے گھوڑے کو ایک بار دیکھ لیتا اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی تھی۔ ()
3. بابا بھارتی کا گھوڑا اس طرح چلتا تھا جیسے طاؤس اودی اودی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو۔ ()
4. ایک اپانج درخت کے سائے تلے پڑا آرام کر رہا تھا۔ ()
5. لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو ہر غریب پر اعتبار کرنے لگیں گے۔ ()
6. بابا بھارتی کو ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ ()
7. گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو نہیں پہچانا۔ ()

نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔

لہلہانا فریفتہ خوف مہربانی قسمت
مدت بے پروا درخواست قوت احتیاط

عملی کام

- خوف زدہ، خبر گیری، بے پروا اور روپوش مرکب الفاظ ہیں۔ مرکب سے مراد ایسا لفظ ہے جس میں ایک سے زیادہ لفظ اس طرح مل گئے ہوں یا ملا دیے گئے ہوں کہ ان سے ایک ہی معنی لیے جاتے ہوں۔ اس طرح آپ بھی پانچ نئے لفظ بنائیے۔

غور کیجیے اور لکھیے۔

- | | | |
|------|-------|-------------|
| گنگا | دہلی | بابا بھارتی |
| دریا | گھوڑا | لڑکا |
| غصہ | خوشی | روشنی |
- پہلی قسم کے نام خاص ہیں یہ کسی خاص آدمی یا کسی شہر یا کسی خاص دریا کے لیے استعمال ہوئے ہیں انھیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔
 - دوسری قسم کے نام عام ہیں کہ کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی گھوڑا کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے انھیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔
 - تیسری قسم کے نام کسی خاص حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انھیں اسم کیفیت کہتے ہیں۔
 - آپ بھی ان تینوں قسموں کے اسم تین تین سوچ کر لکھیے۔

غور کرنے کی بات

- پنڈت سدرشن اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ انھوں نے کئی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں لکھی ہیں۔
- کلہن ڈاکو بابا بھارتی کے گھوڑے کو دھوکے سے حاصل تو کر لیتا ہے لیکن وہ بابا بھارتی کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر گھوڑے کو لوٹا دیتا ہے۔
- ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اچھے کردار کے اثر سے برے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔